



کرکٹ کے مداحوں کے لیے اپنے خوابوں کی جوڑیاں بنانے کا موقع

- پی سی بی اس سرگرمی کے ذریعے مداحوں کو مختلف ادوار میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے اپنے پسندیدہ بلے بازوں اور باؤلرز کو جوڑیوں کی شکل دینے کا موقع فراہم کر رہا ہے

لاہور، 29 اپریل 2020ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے مداحوں کے لیے ایک ایسی پرجوش مہم کا آغاز کر رہا ہے جہاں شائقین کرکٹ کو اپنے خوابوں کی پسندیدہ جوڑیاں بنانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ مہم 29 اپریل بروز بدھ دوپہر 2 بجے سے شروع ہوگی۔

اس مہم کے تحت مداحوں کو بیٹنگ (اوپنرز اور مڈل آرڈرز) اور باؤلنگ (فاسٹ باؤلر ز اور اسپنرز) میں اپنی پسندیدہ ٹیسٹ کرکٹ جوڑیوں کے انتخاب کا موقع دیا جا رہا ہے، جو فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اپنی پسندیدہ جوڑیاں بنا کر اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مہم کے اختتام پر مداحوں کو ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے پسندیدہ وکٹ کیپر کے انتخاب کا موقع بھی دیا جائے گا۔

کھیل کے سب سے معتبر فارمیٹ (ٹیسٹ کرکٹ) میں پاکستان نے بہت سے عظیم ستارے اور لیجنڈز پیدا کیے ہیں۔ اس حوالے سے کھلاڑیوں کے نام ایک مخصوص پوزیشن پر ان کے رنز بنانے اور وکٹیں حاصل کرنے کی تعداد کی بنیاد پر شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔

اس حوالے سے مزید تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

- اوپننگ بیٹسمین (پہلی اور دوسری پوزیشنز) کے لیے ایک ہزار ٹیسٹ رنز بطور اوپنرز
- مڈل آرڈر بیٹسمین (تیسری سے ساتویں پوزیشنز) کے لیے اڑھائی ہزار ٹیسٹ رنز بطور مڈل آرڈر بیٹسمین
- فاسٹ باؤلرز کے لیے کم از کم 75 ٹیسٹ وکٹیں
- اسپنرز کے لیے کم از کم 75 ٹیسٹ وکٹیں
- وکٹ کیپرز کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں کم از کم 50 شکار

محمد یوسف، سابق ٹیسٹ کرکٹر:

ماضی میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے عمدہ بلے باز اور 24 سنچریاں بنانے والے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف کا کہنا ہے کہ یہ پی سی بی کی جانب سے اٹھایا گیا ایک شاندار قدم ہے جو ہمارے نوجوان اور پرجوش مداحوں کو کھیل کے لیجنڈز سے آگاہی کے ساتھ ساتھ ان آزمائشی اوقات میں گھروں میں رہتے ہوئے مصروفیت کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔

بابراعظم، ٹیسٹ کرکٹر:

پاکستان میں کھیلے گئے تینوں ٹیسٹ میچوں میں سنچری بنانے والے قومی ٹیسٹ کرکٹر بابراعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ماضی میں بہت سے ایسے ٹیسٹ بلے باز پیدا کیے ہیں جو ہوم اینڈ اوے کنڈیشنز سے قطع نظر، پیس اور اسپن دونوں طرح کی باؤلنگ کے سامنے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔

بابراعظم نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں محمد یوسف اور یونس خان پر مشتمل جوڑی ان کی پسندیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف بھائی کی اسکلز اور کلاس جبکہ یونس بھائی کے کبھی بھی ہار نہ ماننے والے مائنڈ سیٹ سے ہمارے جیسے کرکٹرز نے بہت کچھ سیکھا اور دونوں سابق کرکٹرز کے تجربے سے سیکھنے کا یہ عمل جاری رہے گا۔

سعید اجمل، سابق ٹیسٹ کرکٹر:

اپنی شاندار اسپن باؤلنگ سے متعدد ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کو کامیابیاں دلانے والے سابق کرکٹر سعید اجمل کا کہنا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ باؤلرز جوڑیوں کی صورت میں شکار کرتے ہیں اور ہم نے میدان میں ایسا دیکھا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پاکستان کے چند بہترین اسپنرز کے ساتھ باؤلنگ کرنے کا موقع ملا اور وہ ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو فتوحات دلانے میں کامیاب بھی رہے۔

سابق ٹیسٹ اسپنر نے کہا کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ لیجنڈری باؤلر مرحوم عبدالقادر کے ساتھ باؤلنگ کرنا پسند کرتے۔ انہوں نے کہا کہ عبدالقادر مرحوم ایک عظیم لیگ اسپنر تھے جن کی گگلی شاندار تھی اور میرے پاس دوسرا جیسا ہتھیار تھا، لہذا یہ جوڑی بہترین ہوتی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4